

PRESS RELEASE

For immediate release

November 17, 2021

SECP registers first Life Insurer as Pension Fund Manager

ISLAMABAD, November 17: In another first at the Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), a life insurance company namely the Postal Life Insurance Company Limited, has been granted permission to manage private pension funds under the Voluntary Pension System (VPS).

Private pension funds under the VPS are regulated by the SECP in terms of VPS Rules, 2005, and are self-contributory, tax advantaged long-term saving schemes, whereby individuals can voluntarily contribute to a pension fund during their working life to have a regular income after retirement. The employer can also contribute on behalf of their employees.

Considering the need and importance of private pensions in Pakistan's context, the SECP has undertaken various regulatory reforms for the development of this sector. This includes revamping the investment framework and raising awareness of the need for private pensions, especially in case of private sector workers. This has translated into a year-on-year growth of 27% in asset under management from Rs. 31.4 billion to Rs. 39.7 billion as of June 30, 2021 and the now inclusion of first life insurance company to undertake pension fund management services.

The SECP aims to continue its reform agenda for the development of the private pension and annuity market in Pakistan. It is currently working on the development of annuity regulatory framework for the asset management sector and bringing structural reforms in VPS in line with 401(K) plan of the United States. The SECP is also engaged with the Mutual Fund Association of Pakistan (MUFAP), professional associations and other stakeholders to corroborate efforts for increasing awareness of VPS.

ایس ای سی پی نے پوسٹل لائف انشورنس کمپنی کو پنشن فنڈ مینجمنٹ کالائسنس جاری کر دیا

اسلام آباد (نومبر 17): سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے پوسٹل لائف انشورنس کمپنی لمیٹڈ کو پنشن فنڈ مینجمنٹ کالائسنس جاری کر دیا ہے۔ یہ پنشن فنڈ مینجمنٹ کالائسنس حاصل کرنے والی پہلی لائف انشورنس کمپنی ہے۔ پاکستان میں پرائیویٹ پنشن کے شعبے کو ایس ای سی پی کے رضاکارانہ پنشن سسٹم (VPS) رولز 2005 کے تحت ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ رضاکارانہ پنشن اسکیم میں ملازمت کرنے والے افراد اپنے کام کی مدت کے دوران رضاکارانہ طور پر ایس ای سی پی کے منظور شدہ پنشن فنڈ میں حصہ ڈالتا ہے جس پر شراکت داروں کو ٹیکس چھوٹ حاصل ہوتی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اس بچت کئے ہوئے فنڈز سے

مناسب اور باقاعدہ آمدنی میسر ہوتی ہے۔ اس فنڈ میں آجر بھی اپنے ملازمین کی طرف سے بھی حصہ ڈال سکتا ہے۔

اس شعبے کے فروغ کے لئے ایس ای سی پی نے کئی ایک اصلاحات کیں ہیں جیسے کہ رضاکارانہ پنشن سسٹم رولز، 2005 میں ترامیم کے ذریعے رضاکارانہ پنشن سسٹم میں سرمایہ کاری کو سہل اور بہتر بنانا اور آن لائن کی سہولت شامل ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں 30 جون 2021 تک زیر انتظام اثاثہ جات (AUM) میں 31.4 ارب روپے سے 39.7 بلین روپے تک 27 فیصد سال بہ سال اضافہ ہوا ہے۔ اس شعبے میں مزید وسعت لانے کے لئے پوسٹل لائف انشورنس کمپنی کو پنشن فنڈ مینجمنٹ کی خدمات فراہم کرنے کا پہلا لائسنس جاری کیا گیا ہے۔

ایک فعال پنشن سسٹم طویل مدتی سرمایہ کاری کو ممکن بناتا ہے جس سے نہ صرف کیپٹل مارکیٹ کو وسعت حاصل ہوتی ہے اور طویل مدت کے لئے دستیاب فنڈز کو معاشی ترقی کی اہم ترجیحات کی مالی اعانت کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے جبکہ دوسری طرف یہ اپنے شہریوں کو بڑھاپے میں محفوظ آمدنی کے ذریعے تحفظ فراہم کرتا ہے۔

ایس ای سی پی پاکستان میں پرائیویٹ پنشن اور کیپٹل مارکیٹ کی ترقی کے لیے بین الاقوامی معیارات کے مطابق اپنے اصلاحاتی ایجنڈے کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ایس ای سی پی میوچل فنڈ ایسوسی ایشن آف پاکستان (MUFAP)، پروفیشنل ایسوسی ایشنز اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر رضاکارانہ پنشن سسٹم کے بارے میں آگہی بڑھانے کی کوششوں میں بھی معاونت کر رہا ہے۔